مولانا عتیق الرحمان سنبھلی *

''برہمن'' کی پختہ زُنّاری بھی دیکھ!

بُش اور بلیر اینڈ کمپنی کو ''برابر کی چوٹ'' کا اب تک کوئی نہ مل رہا تھا۔ یہ کمی بالآخر عراق میں فلوجہ کے ابومصعب زرقاوی نے پچھلے دنوں پوری کی۔ مگر افسوس کہ یہ کمی جس مقابلہ میں پوری ہوئی اس میں بھی جیت کمپنی کی ہوئی۔ زرقاوی برابر رہ کر بھی ہار گئے۔ برابر وہ اس معنی میں رہے کہ مسٹر بلیر نے اگر ان کے مطالبہ پر جھکنے سے انکار کیا اور شدید اندرونی دباؤ کے باوجود انکار پر قائم رہے' تو زرقاوی نے بھی ہر طرف سے آنے والی اپیلوں کے دباؤ کا اسی ''ثابت قدمی'' سے مقابلہ کیا اور اپنا قول کہ ''عراقی عورتوں کو امریکن جیل سے نکلواؤ ورنہ تمہارا آدمی (کینتھ بیگلے) جو ہمارے ہاتھ میں ہے قتل کر دیا جائے گا!'' پورا کر دکھایا۔ مگر زرقاوی برابری ثابت کر کے بھی اس لئے ہارے کہ انہوں نے جو کیا وہ نہایت افسوسناک عمل تھا۔ ان کے ہاتھ میں جو انگریز انجینئر تھا اس کا انہوں نے کوئی گناہ نہیں بتایا تھا۔ بلیر اور بش کے گناہوں کے عوض ان کے ایک بے گناہ ہم قوم کا قتل سراسر گناہ تھا۔ اس نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کئے جانے کی اس مہم کو تقویت بھی پہنچائی جس کے بادل اٹھا کر افغانستان اور عراق پر چڑھائی کی راہ نکالی گئی تھی۔ اور بلیر اس کے برعکس جیتے ہوئے یوں نظر آئے کہ یہ ان کے لئے ایک سخت آزمائش کا موقع تھا۔ اور اسموقع پر زرقاوی کی مانگ کے جواب میں جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ گویا تلوار کی دھار پہ چلنا تھا۔ مگر ان کے منصب کا تقاضہ یہی تھا۔ ملک اور پارٹی کا وقار اس سے وابستہ تھا۔ سخت حالات میں بھی منصب کے تقاضوں سے وفاداری نہ چھوڑنا بڑائی دینے والی بات ہے۔

اس قصہ کے دن ستمبر کے آخری ہفتہ کے وہ دن تھے کہ مسٹر بلیر کی لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اور اس کانفرنس میں پارٹی کے ان لوگوں کی بھاری تعداد کا سامنا بلیر کو کرنا تھا جو عراق پر چڑھائی کے معاملہ میں پہلے دن سے بلیر پالیسی کے کھلے مخالف تھے اور اب حالات وشواہد نے بلیر کو تمام تر غلط اور ان کو صحیح تر ثابت کر دیا تھا ایسے میں ایک برطانوی شہری کی جان کا معاملہ جو بلیر پالیسی ہی کا نتیجہ تھا ایک بڑی جذباتی فضا ان جنگ مخالف لوگوں کے حق میں پیدا کر دینے والا معاملہ تھا۔ ان کے سوا بیگلے کا خاندان بھی جہاں زرقاوی سے رحم کی اپیلیں کر رہا تھا وہاں اپنے وزیر اعظم پر بھی یہ جان بچانے کے لئے دباؤ ڈالنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ٹی وی کیمرے ان کو پورا تعاون

---

* چیئرمین ورلڈ اسلامک فوم لندن ۔یو۔کے

دے رہے تھے۔ جیگلے کی بوڑھی ضعیف ماں روتی ہوئی بیٹے کی رہائی مانگتی اسکرین پر دکھائی جارہی تھی۔ ایسے سخت دباؤ کے ماحول میں ایک جمہوری حکمراں کے لئے آسان نہ تھا کہ وہ اپنے فیصلہ پر آخر تک قائم رہ جائے۔ بلیر نے یہ کمزوری دکھانے سے انکار کر کے یقیناً پالا جیت لیا۔ عراق پر امریکی فوج کشی میں ان کی شرکت کتنی ہی قابل مذمت ہو وہ ایک دوسری بات ہے۔ یہاں اس سے ایک بالکل الگ مسئلہ کی گفتگو ہے۔ یہ بحیثیت لیڈر ایک خاص کردار کا مسئلہ ہے۔ ٹونی بلیر نے ثابت کیا کہ وہ اس کردار کے معاملہ میں پوری طرح قابلِ اعتماد ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک شہری کی جان کھو کر آئندہ کے لئے ایسی مزید آزمائش کا راستہ بند بھی کر دیا اور ملک کا وقار بھی بچالیا۔

اس آزمائشی منظر سے نظر بے اختیار اپنے یہاں کے اس منظر کی طرف جاتی اور اداس ہوتی ہے جس میں قائدانہ کردار کی یہ صلابت واستقامت نہیں ملتی۔ امریکی برطانوی سامراجیت نے جب ۲۰۰۱ء میں افغانستان کا رُخ کیا تو پڑوسی پاکستان میں جن لوگوں نے خود اس کے مقابلہ کا عزم ظاہر کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس معاملہ میں ساتھ دینے کے لئے پکارا وہ حالات کی سختی سے رفتہ رفتہ اس قدر بدلے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ جیسے وہ لوگ کوئی اور تھے جنہوں نے اس وقت وہ باتیں کی تھیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان پر قناعت نہ کر کے عراق کو بھی روند ڈالا ہے۔ مگر ان کا یہ فاصلہ بڑھانے والا عمل الٹا فاصلوں کو کالعدم کرنے والا ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ۲۰۰۱ء میں جس افغانستان پر یہ لوگ عذاب بن کر نازل ہوئے تھے وہ طالبان کا افغانستان تھا۔ ''طالبان'' کا لفظ آپ سے آپ بھی ''مدرسہ'' سے ان کے رشتہ کی طرف اشارہ کرتا تھا' پھر مدرسے خود بھی آگے بڑھ بڑھ کر ان سے اپنا رشتہ دکھا رہے تھے۔ طالبان سے فارغ ہوتے ہی امریکہ اور اسکے ساتھ ساتھ کم وبیش تمام مغربی ممالک نے ضروری جان لیا کہ ''طالبان'' سے آئندہ کے لئے اطمینان حاصل کرنے کا پاکستان (بلکہ دنیا بھر) کے مدارس کی ''اصلاح'' لازم ہے۔ ورنہ یہ ''نرسری اگر'' باقی رہی تو ''سر پھرے'' پھر ضرور نکلتے رہیں گے۔ اس سلسلہ میں ان کی یہ مرکزی سوچ کوئی راز نہیں کہ وہ یہاں کے دینی تعلیم کے نظام کو اس ''اعتدال پسند'' (Moderate) اسلام کی تعلیم کے نظام سے بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جس کے فارغین کو ان کے اس تصورِ زندگی سے ہم آہنگی میں کوئی دقت نہ محسوس ہو جسے وہ ڈیما کریسی اور لبرٹی وغیرہ کی اصطلاحات سے ادا کرتے ہیں۔

اس صورت حال میں توقع کی جاتی تھی کہ طالبان کو بچالینا اگرچہ پاکستان کے دینی قائدین کے بس کی بات نہ تھی۔ اور یوں وہ ایک ملک بھی الگ تھا۔ مگر یہ جو خود پاکستان کے مدارس نشانہ پر رکھے جارہے ہیں ان کو تو وہ اپنے جیتے جی مغربی ''اصلاحات'' کا شکار ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ مگر ہم ایک حیرت زدگی کے عالم میں خبریں پڑھتے ہیں کہ مغربی ممالک کے سفارت کار ہمارے مدرسوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ اور نظامِ تعلیم کی جدید کاری کے لئے ہمہ جہت تعاون کی پیش کشیں اُن کی زبانوں پر ہیں۔ دل پوچھتا ہے' کیا ان لوگوں کے لئے کسی بھی درجہ میں ہمارے ہمت افزاء رویہ کا

کوئی جوڑ افغانستان پر بمباری کے وقت والے ہمارے جذبات اور رویہ سے لگایا جا سکتا ہے؟ کسی کو اگر ان لوگوں کی ڈپلومیٹک زبان کے جادو سے کوئی دھوکہ ان کے مقاصد وعزائم کے بارے میں ہو گیا ہو تو مسٹر بلیر کی اسی کانفرنس کی تقریر پڑھ لینی چاہیے جس کا ذکر اوپر آیا۔

اس کانفرنس پر عراق کا مسئلہ چھایا رہا تھا اور جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا اس مسئلہ پر مسٹر بلیر کو خود اپنی پارٹی میں پہلے دن سے سخت مخالفت کا سامنا ہے' اس کانفرنس کا موقع بظاہر ان کے لئے اس سلسلہ کی آزمائشوں کا آخری اور سخت ترین موقع تھا۔ مگر تمام سابقہ موقعوں کی طرح وہ اس بار بھی پار ہو جانے کی صلاحیت کا ثبوت دے گئے' یا کہیے کہ قسمت ساتھ دے گئی۔ برطانوی صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کے اندازوں اور ذرائع کے مطابق مسٹر بلیر کو اس کانفرنس کے لئے تقریر کی تیاری میں بذاتِ خود بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ اور کیس جس قدر کمزور تھا اور جیتنا بہر حال تھا' تو اس کے لئے ضرور ایسا ہوا گا۔ اس تقریر میں یوں تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ مگر اصلاً جو چیز محنت طلب تھی وہ عراق پر جا پڑنے کا جواز ان سب باتوں کے باوجود بتانا جنھوں نے جواز کے لئے بنائے گئے سارے کیس کی بخیہ ادھیڑ ڈالی ہے۔ نیز اس تقاضہ کو رد کرنا کہ اب جو ناساز گار حالات وہاں پر ہیں ان کی بنا پر وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ نکل آنے کے تقاضہ کو رد کرتے ہوئے جو کچھ موصوف نے کہا اس میں پاکستانی مدرسوں کا بھی صراحتہً ذکر خیر ہے۔ اور اس طور پر کہ ابھی عراق سے نکل آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو عراق میں اور جہاں تہاں دہشت گردی سر اٹھائے ہوئے ہے اور ہماری مہم کا اصل ہدف وہی ہے اس کے تو سرچشموں تک ہمیں پہنچنا اور تباہ کرنا ہے اور ان سرچشموں میں سے ایک ہیں پاکستان کے مدرسے۔ لیجئے۔ تقریر کا یہ متعلقہ حصہ یہاں پڑھ لیجئے:

There are two views of what is happening in the world today. One view is that what is happening is not qualitatively different from the terrorism we have always lived with......
.... We try not to provoke them and hope in time they will wither.

The other view is that this is a wholly new phenomenon, worldwide terrorism is based on a perversion of the true, peaceful and honourable faith of Islam; that its roots are in the madrassas of Pakistan, the extreme form of the Wahabi doctrine of Saudi Arabia, in the former training camps of al-Qaedah in Afghanistan. If you take this view, the only path to take is to confront this terrorism, remove its root and branch and at all cost stop its acquiring the weapons to kill on a massive scale. (The Time 30 Sept.2004)

ترجمہ: ''آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دہشت گردی کوئی نئی نرالی چیز نہیں' یہ ہوتی ہی آئی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ان لوگوں کو چھیڑا جائے' یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا نقطہ نظر (جو خود بلیر صاحب کا ہے) یہ ہے کہ

ایک بالکل نرالا ظہور ہے۔ یہ عالمگیر نوعیت کی دہشت گردی ایک سچے' پرامن اور قابل عزت دین' اسلام' کی تحریف پر مبنی ہے۔ اور اس کی جڑیں ہیں پاکستان کے مدرسوں میں' سعودی وہابیت کی انتہا پسندانہ شکل میں اور القاعدہ کے سابق افغانی ٹریننگ کیمپوں میں۔ اس نقطہ نظر کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر واحد راہ عمل یہ ہے کہ اس دہشت گردی سے ٹکرایا جائے' اس کی جڑوں اور شاخوں سب کا صفایا کیا جائے اور کسی بھی قیمت پر یہ نوبت نہ آنے دی جائے کہ اس کے ہاتھ میں وسیع پیمانہ پر مار دھاڑ کے ہتھیار آ جائیں۔''

کیا اس اقتباس کو پڑھ کر بھی کوئی شبہ رہنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے مدارس کے لئے مغرب کی چھاتیوں میں ایک دم سے ''دودھ اُتر آیا'' ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بش اور بلیر جو اس مہم کے پیشوا ہیں ان میں سے بلیر صاف بتا رہے ہیں کہ وہ مدرسوں کی موجودہ تعلیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو انہیں' بزعم خود' اسی طرح جڑ سے اکھاڑ دینا ہے جس طرح افغانستان سے القاعدہ کے ٹریننگ کیمپ صاف کر کے ''سابق'' بنا دیئے گئے۔

ہمیں تو یہی سمجھنا کچھ مشکل ہو رہا تھا کہ جنرل پرویز صاحب نے حکومت سنبھالنے کے بعد سے جو مدارس کی ''اصلاح'' کا علم اٹھایا تو ہمارے اہل مدارس اپنے رویہ سے یہ ظاہر کرنے کے لئے باوجود یہ کہ وہ اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ جنرل صاحب سے کبھی یہ کیوں نہ پوچھ سکے کہ دستورِ پاکستان کی کون سی شق حکومت کو مجاز بناتی ہے کہ ان آزاد دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں کچھ اپنی منشأ داخل کریں؟ ہم نے اس خیال کے ماتحت دستورِ پاکستان کی ورق گردانی بھی کی اور کوئی ایسی شق وہاں دکھائی نہ دی۔ یہاں' بے نصاب تعلیم میں کوئی چیز ایسی داخل ہو جو دستور کی رو سے ناروا ہو تو حکومت اس کو بے شک کہے کہ اصلاح کی جائے۔ مگر اس کے ماسوا تو صرف ایک عام شہری والے حق سے بس رائے زنی جائز ہو سکتی ہے' اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اب اس پر مزید جو یہ مغربی سفارت کاروں کے ساتھ معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو یہ تاثر دیتا ہے کہ دل شاید ''ناتواں'' تھا جو مقابلہ میں دم توڑ گیا ہے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ اندیشہ گزر رہا تھا کہ اس میں کہیں دخل القاعدہ کی طرف منسوب ابومصعب زرقاوی جیسے جیالوں کے طرز عمل کا نہ ہو جس کے حوالہ سے اسلام اور اسلامی تعلیم کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کہیں اس پروپیگنڈے کے دباؤ میں تو یہ دینی قیادت نہیں آ گئی؟ خاص کر ایسے حالات میں کہ اندر خود اپنی حکومت بھی وہی ایجنڈا لئے ہوئے چل رہی ہے! لیکن ابومصعب زرقاوی جیسے لوگ تو تمام تر جناب بش اور بلیر کی اس سفاکی کا ردِ عمل ہیں جس کی گواہ افغانستان کی اور عراق کی سرزمین ہے اور جس پر خود امریکہ اور برطانیہ کے لاکھوں لوگ اپنے صدر اور وزیراعظم کو لعنت کناں اور شرمسار ہیں۔ امریکی صدر بش اپنی عالمی سطح کی ذمہ دارانہ حیثیت کے باوجود اگر دو تین ہزار امریکنوں کی موت پر اس قدر آپے سے باہر ہو سکتے ہیں کہ مفلوک الحال افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بھی تسکین نہ پائیں تو عراق پر توڑی گئی ایسی قیامت سے' جس کے لئے یہاں بھی بغیر جعل سازی کے میسر نہ تھا زرقاوی جیسے جوانوں کا عربوں میں نکل آنا' اسے کیونکر بجز ردعمل ماننے کے ہم سے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس کے ایک خبر ہمارے اندیشہ کو عین واقعہ اور حقیقت بتانے والی سامنے

آ کر رہی ہے۔ اور مسٹر بش اور بلیر کی اپنے ایک انتہائی شرمناک موقف پر ڈھٹائی کے ہم معنی مضبوطی کے مقابلہ میں اپنوں کی لچک کا منظر دیکھ کر علامہ اقبال کا یہ نوحہ یاد آ گیا ہے۔

دیکھ مسجد میں شکست رشتۂ تسبیح شیخ
بتکدہ میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ

یہ خبر اسلام آباد میں ۱۶ ستمبر کو منعقدہ ''پہلی بین المذاہب کانفرنس'' کے حوالہ سے ہے۔ ماہنامہ ''الشریعہ'' گوجرانوالہ شمارہ اکتوبر ۲۰۰۴ء میں تفصیل سے نقل ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کے داعی وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد حنیف جالندھری تھے' مولانا کے استقبالیہ کا جو اقتباس خبر میں دیا گیا ہے اس کے یہ دو تین جملے ہمارے موضوع گفتگو سے تعلق رکھتے ہیں۔

''انہوں نے مدارس کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد معاشرہ کے اصلاح کا اہم ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دین و مذہب کا دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں اور ہم سب ملک کر دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے۔''

عام حالات میں ان جملوں کا ہر لفظ مکمل تائید کا مستحق ہے۔ مگر اس وقت امریکہ اور برطانیہ (یعنی جناب بش اور بلیر) نے دہشت گردی کی اصلاح کو مبہم رکھ کر (اور باوجود دنیا کے اصرار کے اس مفہوم کا تعین یو این او میں بھی نہ ہونے دے کر) جو ستم اس اصطلاح کی آڑ میں اپنی سامراجیت کا مقابلہ کرنے والوں پر ہر طرف توڑ رکھا ہے اس کے بعد اس مبہم ''دہشت گردی'' کے خلاف مزاحمت کا عہد کرنے کے لئے (خاکم بدہن) امریکہ اور برطانیہ کے پروپیگنڈ طاقت کے آگے سپر ڈال دینے کے سوا دوسری تعبیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اللھم قوفی رضاک ضعفنہ وخذلا الی الخیر بنو اصینا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔

اس گفتگو میں روئے سخن اگرچہ خاص پاکستان کی طرف ہو گیا ہے' جس کی وجہ مخفی نہ ہونی چاہیے۔ مگر پڑوسی ہندوستان کے اہل مدارس کے بارے میں بھی جو کچھ اسی طرح کی خبریں آنے لگی ہیں تو جو پاکستان والوں پر صادق آئے گا وہ بعینہٖ ان پر بھی۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ ہمارے مدارس کے نصاب تعلیم میں تبدیلیوں کا جو سوال اٹھا ہوا ہے یہ لکھنے والا اصولاً اس کی تائید میں ہے۔ خود اس نے مدرسہ میں پڑھا اور احسان مند ہے۔ مگر روز بروز شدت سے محسوس کرتا ہے کہ اس نے جو وہاں پڑھا زمانہ کی دینی ضرورت کے لحاظ سے وہ کم تھا۔ مگر یہ تبدیلی اسلام کو مغربی تصور کے مطابق ''ماڈرن'' بنانے کے نقطۂ نظر سے آئے اس سے اللہ کی پناہ!